

PRESS RELEASE

For immediate release

September 22, 2022

SECP approves eight technology driven business solutions under third cohort of Regulatory Sandbox

ISLAMABAD, September 22: The Securities and Exchange Commission of Pakistan's Regulatory Sandbox continues to lead innovation and technological disruptions, particularly in the fintech sector. The third cohort of Regulatory Sandbox, will include business models and technology platforms for telematics-based vehicle insurance, digital-only asset management companies, banking sector ETF, livestock fund and bond fractionalization.

These business models and tech platforms will be tested in the coming 9-12 months. SECP approved eight applicants out of the applications received for testing innovative business solutions for the financial services market. Applications under the third cohort were accepted during the months of April-May 2022.

The third cohort received response from a wide range of established entities and start-ups, as well as from foreign companies, proposing innovative business models. However, preference was given to innovation in the areas of digital-only Asset Management companies, telematics-based insurance, digital platforms for private placement of debt instruments, AI based Algorithmic Trading Platform, AI and data analytics-based credit scoring and other decision making.

The approved participants shall have an initial incubation period of 2 months to align their business and technology aspects/partners. It will be followed by live testing, which can take 6 to 10 months. At the end of the testing period, applicants shall submit a comprehensive report to the SECP for sharing overall results and statistics. This process assists in bringing new and beneficial technology products for the end users to the market.

SECP believes that testing of technology-driven solutions through Regulatory Sandbox can stimulate financial and technological innovation and broaden the range of financial products. Such initiatives also supplement SECP's vision of enhancing financial inclusion and promotion of FinTech and InsurTech sectors under its regulatory domain.

ایس ای سی پی کے ریگولیٹری سینڈ باکس کے تیسرے کوہورٹ میں آٹھ ٹیک-بیسڈ کاروبار شامل

اسلام آباد، 22 ستمبر: سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ریگولیٹری سینڈ باکس جدت اور تکنیکی سیکٹرز میں، خاص طور پر فن ٹیک سیکٹر میں نئی مصنوعات اور خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔

ریگولیٹری سینڈ باکس کے تیسرے کوہورٹ میں ٹیلی میٹکس پر مبنی گاڑیوں کی انشورنس، ڈیجیٹل آنلی اثاثہ جات کی مینجمنٹ کمپنیاں، بینکنگ سیکٹر ایکسچینج ٹریڈ فنڈز، لائیو اسٹاک فنڈ اور بانڈ فریکشلائزیشن کے لیے کاروباری ماڈلز اور ٹیکنالوجی پلیٹ فارم شامل ہیں۔

ان کاروباری ماڈلز اور ٹیک پلیٹ فارمز کو آنے والے نوے بارہ مہینوں میں ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ایس ای سی پی نے فنانشل سروسز مارکیٹ سے متعلق موصول ہونے والی درخواستوں میں سے آٹھ درخواستیں منظوری کیں۔ سینڈ باکس کے تیسرے کوہورٹ کے لیے درخواستیں اپریل اور مئی کے دوران وصول کی گئیں۔

تیسرے کوہورٹ کو موجودہ بزنسز اور سٹارٹ اپس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کمپنیوں کی طرف سے بھی زبردست رد عمل ملا۔ جدید تکنیکی آئیڈیاز اور کاروباری ماڈلز کی تجاویز سمیت درخواستیں موصول ہوئیں۔ تاہم اس تیسرے کوہورٹ کے لیے ڈیجیٹل آنلی اثاثہ جات کے مینجمنٹ کمپنیوں، ٹیلی میٹکس پر مبنی انشورنس، قرض کے آلات کی پرائیویٹ پلیسمنٹ کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم، AI پر مبنی الگورتھمک ٹریڈنگ پلیٹ فارم، اور AI اور ڈیٹا اینالیٹکس پر مبنی کریڈٹ اسکورنگ جیسے شعبوں سے متعلق درخواستوں کو ترجیح دی گئی۔

منظور شدہ شرکاء کے پاس ان کے کاروبار اور ٹیکنالوجی کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے ابتدائی انکیوبیشن مدت دو ماہ ہوگی۔ اس کے بعد لائیو ٹیسٹنگ کی جائے گی، جس میں 6 سے 10 ماہ لگ سکتے ہیں۔ جانچ کی مدت کے اختتام پر، درخواست دہندگان کو مجموعی نتائج اور اعداد و شمار کا اشتراک کرنے کے لیے ایک جامع رپورٹ ایس ای سی پی کو جمع کرانی ہوگی۔ اس لائحہ عمل سے صارفین کے لیے نئی اور فائدہ مند ٹیکنالوجی کی مصنوعات کو مارکیٹ میں لانے میں معاونت ملے گی ہے۔

ایس ای سی پی کا ماننا ہے کہ ریگولیٹری سینڈ باکس سے مالیاتی شمولیت اور تکنیکی جدت کو فروغ ملے گا اور مالیاتی مصنوعات کی رینج کی توسیع میں مدد ملے گی۔ سینڈ باکس جیسے اقدامات ایس ای سی پی کے مالی شمولیت کو بڑھانے اور اس کے ریگولیٹری ڈومین کے تحت FinTech اور InsurTech کے شعبوں کو فروغ دینے کے وژن کی تکمیل بھی کرتے ہیں۔

